

الف۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت:											
پروڈکٹ کا نام	HBL اسلامک کارفنانس										
درکار کا ڈی	نئی ☐ استعمال شدہ ☐										
درکار فنانسنگ	_____ روپے										
فنانسنگ کی شرائط	_____ ماہ										
مناہج کی قسم	مقررہ										
ب۔ اس فنانسنگ کی تحقیقی لاگت:											
اینویمل پرنسٹنجر ریٹ (APR)	_____ %										
آپ سے کتنا منافع (مقررہ / متغیر) * وصول کیا جائے گا؟	_____ %، روپے _____										
آپ کو اور کون سے چارجز ادا کرنے ہونگے؟	* باقاعدہ چارجز: 13,000 روپے + FED * پرنسٹنجر اسلامک کارفنانس کسٹمر: 6,500 روپے + FED (بشمول) 6 ماہ کے بعد دوبارہ درخواست دینے والے افراد کے لئے یا ایک سہولت کی پیچورٹی کے بعد یا کم از کم 6 ماہ کے بعد سسٹم لٹ بشمول: - دستاویزی چارجز - تصدیق - اسٹیپ ڈیوٹی - کریڈٹ رپورٹ: اصل 150 روپے تک - گاڑی کی تشخیص کے چارجز: اصل چارجز کسٹمر کو ادا کرنے ہونگے * تازہ ترین ISOBC کے مطابق۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتا ہے، براہ مہربانی تازہ ترین ISOBC کے لئے ویب سائٹ وزٹ کریں										
قابل ادائیگی مابین قسط کیا ہوگی؟ (ایکول منتقلی اسامینٹ (EMI) صرف پہلے سال کے لئے)	* روپے = _____ فنانسنگ کی رقم + منافع (APR) فنانسنگ کی مدت (فنانسنگ کی مدت مینٹوں میں)										
قابل ادائیگی گیل مابین قسط ہفتی ہوگی؟ (ٹوٹل منتقلی مینٹ (TMP) صرف پہلے سال کے لئے)	* روپے = _____ EMI مابین ہفتہ گیل										
فنانسنگ کے لئے آپ کی کل سستی رقم ادا کریں گے / گی؟	(تکفل کے ساتھ مابین کرانے کی رقم) _____ روپے x (فنانسنگ کی مدت) _____ مینٹے = _____ روپے										
ج۔ قبل از وقت ادائیگی اور جزوی ادائیگی:											
کیا آپ پیچورٹی سے پہلے فنانس ادا کر سکتے / سکتی ہیں؟	ہاں										
آپ پیچورٹی سے پہلے فنانس کی ادائیگی کیسے کر سکتے / سکتی ہیں؟	کسٹمر براؤنچ شریف لائے گا اور کارفنانس کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست دے گا۔										
کیا آپ کو فنانس کی قبل از وقت سبدوشی پر کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی؟	گاڑی کی ڈیلوری کے بعد فنانسنگ کی سہولت کو قبل از وقت ختم کرنے کی صورت میں جہاں کسٹمر گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو بینک بتایا فنانسنگ کی رقم پر قیمت فروخت کے طور پر 10% کا اضافہ کر سکتا ہے۔										
کیا آپ کو اضافی پوئس کی خریداری / فنانس کی جزوی ادائیگی کے لئے کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی؟	خریدے گئے پوئس کی قیمت میں 5% اضافہ۔										
د۔ عدم ادائیگی سے متعلق معلومات:											
آگر آپ اپنی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے / کرتی ہیں تو؟	بینک گاڑی کو واپس قبضے میں لے سکتا ہے اور / یا کسٹمر کے خلاف چارہ جوئی کر سکتا ہے۔										
اپنی ضبط شدہ گاڑی کو واپس حاصل کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟	آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اسامینٹ بینک آف پاکستان (SBP) دو سال تک کی منفی / واجب الادا ادائیگی کی معلومات (جس میں شامل مگر محدود نہیں، زائد اہل عیاداد ایگیاں، نمبرات، Write-off / منافع کی رقم کی تبدیلی وغیرہ) کو eCIB میں شامل کرے گا، لہذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی قسطوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کے e-CIB پر کسی بھی منفی معلومات کی اطلاع یا عکاسی نہ ہو۔ اگر کسٹمر باقی رقم ادا کر سکتا ہے: گاڑی اُسے واپس کر دی جائے گی، تاہم اگر کسٹمر ادائیگی کرنے سے قاصر ہے تو بینک لیکوڈیشن کے عمل کا انتخاب کر سکتا ہے۔										
وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر آپ پر کتنی خیرات قابل ادائیگی ہوگی؟	<table><tr><th>عدم ادائیگی کے چارجز</th><th>خیرات کا اطلاق</th><th>تاخیر سے ادائیگی کے حساب کا طریقہ</th></tr><tr><td>واجب الادا قسط کی عدم ادائیگی میں ہر تاخیر پر 1,500 خیرات ادا کریں</td><td>خیرات کی مقررہ رقم</td><td>خیرات کی مقررہ رقم</td></tr><tr><td>گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لئے چارجز: 100,000 روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)</td><td></td><td></td></tr></table>		عدم ادائیگی کے چارجز	خیرات کا اطلاق	تاخیر سے ادائیگی کے حساب کا طریقہ	واجب الادا قسط کی عدم ادائیگی میں ہر تاخیر پر 1,500 خیرات ادا کریں	خیرات کی مقررہ رقم	خیرات کی مقررہ رقم	گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لئے چارجز: 100,000 روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)		
عدم ادائیگی کے چارجز	خیرات کا اطلاق	تاخیر سے ادائیگی کے حساب کا طریقہ									
واجب الادا قسط کی عدم ادائیگی میں ہر تاخیر پر 1,500 خیرات ادا کریں	خیرات کی مقررہ رقم	خیرات کی مقررہ رقم									
گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لئے چارجز: 100,000 روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)											
ہ۔ دیگر مادی معلومات:											
آپ کے پاس تکفل کے کون کون سے آپشن ہیں؟	تکفل کو رینج لازمی ہے، بینک کے بینٹل انشور میں شامل ہیں آدیم جی، JGI، EFU اور TPL (یادگیر جسے وقتاً فوقتاً HBL کی جانب سے منظور کیا گیا ہو)، جمع تکفل کا احاطہ (تفصیلات تکفل سرٹیفکیٹ میں مذکور ہیں)۔										
کسٹمر کی موت واقع ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟	اسلامک کارفنانس مشارکہ کا معاہدہ آس وقت تک جاری رہے گا جب تک بینک کسٹمر کے قانونی ورثا سے ختم نہیں کرتے۔										
ضامن کی ذمہ داری کیا ہیں؟	N/A										
آپ کو کون کون سے دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟	HBL اسلامک کارفنانس کی درخواست، خط برائے تنظیم، اسلامک شیڈول آف چارجز (ISOBC)، اسلامک کارفنانس فیڈیلیٹی لیٹر، ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی، بینک اور ڈیلوری میں تاخیر سے متعلق تنظیم، نان فائلرز کے لئے ٹیکس کا حساب، پروڈکٹ کی معلومات / خصوصیات اور کسٹمر کا اقرار نامہ۔										
کیا آپ فنانس کی مدت کے دوران اپنی گاڑی کی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتے / سکتی ہیں؟	ہاں، آپ HBL سے NOC حاصل کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتے ہیں جو کہ بقایا رقم اور بینک پر واجب الادا اتمام واجبات کی ادائیگی کے بعد بھی جاری کیا جائے گا۔										
آپ معاوضہ و مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے / سکتی ہیں؟	کسٹمر HBL کا بینک سینگ 425-111-111 پر کال کر سکتے ہیں یا مقامی HBL برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔										

مجاز بینکر کے دستخط، مہر اور تاریخ

کسٹمر کے دستخط اور تاریخ

کسٹمر کا نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر

میں / ہم پر یہ نیا اقرار دواتر پیش کرتا ہوں / کرتے ہیں (a) HBL Islamic CarFinance کے زیر ماتحت Key Fact Sheet کی وصولی (نئے بعد میں "KFS" کہا جاتا ہے) کو لاہور پڑھاور سمجھا گیا: (c) KFS پر میری / ہماری جانب سے HBL Islamic CarFinance کے تحت خریدا / وضوایا کی قبولیت کے بعد ضبط کئے گئے ہیں۔

بینک حارجہ اسلامک شیڈول آف بینک حارجہ کے مطابق ہوتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاتی ہے۔